

2018 قانون ساز کونسل کی کولون ویسٹ جغرافیائی حلقہ کے

ضمنی انتخابات پر مختصر معلومات

پولنگ کا دن اور گھنٹے

- پولنگ کا دن: 25 نومبر 2018 (اتوار)
- پولنگ کے گھنٹے: 7:30 a.m. - 10:30 p.m. (ما سوائے جیلوں میں واقع مختص پولنگ اسٹیشنز جہاں پولنگ کے گھنٹے 9:00 a.m. سے 4:00 p.m.)

رکن منتخب کرنے کی تعداد

- کولون ویسٹ جغرافیائی انتخابی حلقہ کے لیے ایک رکن

نامزدگی کی مدت

- امیدوار کی نامزدگی کی مدت: 15 - 2 اکتوبر 2018
- نامزدگی کے فارم REO کی ویب سائٹ (www.reo.gov.hk) سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں یا مندرجہ ذیل دفاتر سے لیے جا سکتے ہیں:
 - ضلعی دفاتر
 - ریٹرننگ آفیسر کے دفتر
 - 10/F ، ہاربر سینٹر، 25 ہاربر روڈ، وان چائی، ہانگ کانگ یا یونٹ 03-2301 ، 23/F ، 23/ف، 6 ، 392 کن تھنگ روڈ، کن تھنگ، کولون دفتر برائے اندراج اور انتخاب ("REO") پر دستیاب ہیں۔

ووٹنگ کے انتظامات

- کولون ویسٹ جغرافیائی حلقہ کے رجسٹرڈ ووٹرز جن کے نام 2018 کے حتمی اندراج میں شامل ہیں وہ ضمنی انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔
- ہر ووٹر کو ایک مخصوص پولنگ اسٹیشن دیا جائے گا۔

- ووٹنگ سے 10 دن پہلے متعلقہ ووٹروں کو ایک پول کارڈ جاری کیا جائے گا جس پر مختص پولنگ اسٹیشن لکھا ہو گا۔

- آیا کہ مختص پولنگ اسٹیشن، ویبل چیئر استعمال کرنے والے افراد یا چلنے پھرنے میں مشکلات کے شکار افراد کے لیے قابل رسائی ہے یا نہیں، پول کارڈ سے منسلک مقام کے نقشہ میں وضاحت دی جائے گی۔ ووٹرز جو ویبل چیئر استعمال کرتے ہیں یا انہیں چلنے پھرنے میں مشکلات درپیش ہوں اور انہیں لگے کہ مختص پولنگ اسٹیشن تک ان کے لیے رسائی ممکن نہیں، تو وہ **REO** کو ویبل چیئر استعمال کرنے والے افراد یا چلنے پھرنے میں مشکلات کے شکار افراد کے لیے قابل رسائی مختص خاص پولنگ اسٹیشن میں ووٹ دینے کے لیے فیکس کے ذریعے (2891 1180)، ایمیل کے ذریعے (reoenq@reo.gov.hk)، ٹیلی فون کے ذریعے (2891 1001)، یا ڈاک کے ذریعے 10/F، باربر سینٹر، 25 باربر روڈ، وان چائی، دفتر برائے اندراج اور انتخاب کو 20 نومبر 2018 (منگل) سے پہلے درخواست دے سکتے ہیں۔

- اگر ووٹر کو ووٹ ڈالنے کی معلومات کے ترجمہ میں مدد کی ضرورت ہے تو، وہ نسلی اقلیتوں کے مرکز ("CHEER") پر مندرجہ ذیل ہاٹ لائن پر 12 سے 16 نومبر اور 19 سے 25 نومبر 2018 کے دوران کال کر سکتے ہیں۔

ہاٹ لائن نمبر	زبان
3755 6811	بھاسا انڈونیشیا
	تگا لوگ
	تھائی
3755 6822	ہندی
	نیپالی
3755 6833	اردو
	پنجابی

ووٹ کیسے دیں؟

- اپنا اصل ہانگ کانگ شناختی کارڈ یا دیگر متبادل کاغذات اپنے مختص کردہ پولنگ اسٹیشن پر ساتھ لائیں اور متعلقہ کاغذات پولنگ کے عملہ کو دکھائیں جو آپ کی معلومات کی حتمی

اندراج سے تصدیق کرے گا۔ اگر ضروری ہو، تو برائے مہربانی قابل قبول متبادل کاغذات کی تفصیلات کے لیے REO سے رابطہ کریں۔

- آپ کو ایک بیلٹ پیپر، ایک کارڈ بورڈ بمع ایک "✓" کے نشان والی مہر دیے جائیں گے۔ بیلٹ پیپر پولنگ کے عملہ کی طرف سے پہلے ہی تہہ شدہ ہوں گے۔ آپ لازماً ووٹنگ کے کمرہ میں فراہم کردہ مہر سے بیلٹ پیپر پر نشان لگائیں۔
- آپ لازماً کارڈ بورڈ کے ساتھ منسلک مہر کو استعمال کرتے ہوئے بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے دیئے گئے دائرے میں "✓" (کا نشان) لگائیں۔ ہر بیلٹ پیپر پر صرف ایک امیدوار کے لیے ووٹ کریں۔ اگر آپ سے بیلٹ پیپر پر مہر لگانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا بیلٹ پیپر خراب ہو گیا ہے تو، برائے مہربانی پریزائیڈنگ آفیسر کو بیلٹ پیپر واپس کر کے دوسرا دینے کو کہیں۔
- بیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے بعد برائے مہربانی بیلٹ پیپر کو بیلٹ بکس میں ڈالنے سے پہلے پولنگ کے عملہ کی پہلی تہہ کے مطابق تہہ لگائیں تاکہ "✓" کے نشان کو چھپانے کے لیے نشان زدہ حصہ اندر ہو؛

شفاف انتخابات

بدعنوانی کے خلاف خود مختار کمیشن کی طرف سے لاگو کیے جانے والے انتخابات (بدعنوان اور غیر قانونی طرز عمل) آرڈیننس (کیپ 554) کے مطابق، ایک ووٹر کو یہ نہیں کرنا چاہیے:

- انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے کے لیے یا ایک مخصوص امیدوار کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے یا نہ ڈالنے کے لیے کسی شخص سے کوئی فائدہ (بشمول پیسہ، تحفہ، وغیرہ)، کھانا، پینا یا تفریح قبول کرنا یا مانگنا؛
- کسی کے ووٹ ڈالنے کے فیصلہ کو متاثر کرنے کے لیے طاقت یا دباؤ کا استعمال کرنا یا دھمکی دینا؛
- انتخابات میں ووٹ ڈالنا یہ جانتے ہوئے کہ وہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے حقدار نہیں ہیں؛ یا جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے ایک انتخابی افسر کو غلط یا گمراہ کن معلومات (مثال کے طور پر غلط بنیادی رہائشی پتہ) دینا۔

ICAC شفاف انتخابات پر ایک مختص ویب سائٹ اور متعلقہ معلومات فراہم کرتا ہے (انگریزی اور چائینی دونوں میں) لنک یہ ہے:

<https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html>